



HM Government

NHS

This document has been withdrawn as it is out of date. For the latest guidance go to: <https://www.gov.uk/government/collections/hospital-discharge-service-guidance>

# ہسپتال سے چھٹی (ڈسچارج): معلومات

یہ بات اہم ہے کہ ہمارے ہسپتال ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لئے تیار ہوں جنہیں کرونا وائرس (-19COVID) لگا ہو اور انہیں ہسپتال میں دیکھ بھال یا کیئر کی ضرورت ہے۔ اس دباؤ سے نمٹنے کے لئے، جب آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے فیصلے کی رو سے آپ کو ہسپتال میں کیئر کی مزید ضرورت نہ ہو، تو آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپنے ڈسچارج ہونے پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، تاہم یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کہ لوگوں کو ڈسچارج کر کے ایک مناسب جگہ بھیجا جائے۔

اور اکثر کیسز میں یہ آپ کا گھر ہوگا۔ آپ کو شاید اضافی سپورٹ کی ضرورت ہو، مثلاً آپ کے خیال رکھنے کی یا خریداری کی ضروریات۔

اگر آپ کو ہسپتال سے باہر زیادہ پیچیدہ کیئر کی ضرورت ہو، تو پھر یہ کمیونٹی میں کوئی بستر ہوسکتا ہے، جیسا کہ ایک ریزیڈنشل (رہائشی) نرسنگ ہوم۔

آپ کی ضروریات اور ڈسچارج کئے جانے کے انتظامات پر آپ سے بات کی جائے گی۔

## کرونا وائرس کیا ہے؟

کووڈ-19 (-19COVID) ایک نئی بیماری ہے جو پھیپھڑوں اور سانس کی نالی کو متاثر کرسکتی ہے۔ یہ ایک وائرس سے لگتی ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں۔

فی الحال اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ بیماری لگنے کی صورت میں ہسپتال میں داخل کرنا ہوتا ہے۔

آپ کرونا وائرس کے بارے میں اور اس کو پھیلنے سے روکنے کے لئے بہترین طریقوں کے بارے میں جاننے کے لئے اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں

[www.nhs.uk/coronavirus](http://www.nhs.uk/coronavirus)